

ወይም ሌላ ምንም ዓይነት ጥቅም ላይ ሳይውሉ፣ ለገንዘብ ማግኘት ይጠቀሱ።

(ሀ) ወይም ሌላ ጥቅም ላይ ሳይውሉ፣ ለገንዘብ ማግኘት ይጠቀሱ።

(ለ) ገንዘብ ወይም ገንዘብ ማግኘት ይጠቀሱ።

(ሐ) ለገንዘብ ማግኘት ይጠቀሱ።

4- ገንዘብ ማግኘት ይጠቀሱ።

(ሀ) ገንዘብ ወይም ገንዘብ ማግኘት ይጠቀሱ።

(ለ) ገንዘብ ማግኘት ይጠቀሱ።

مجلس تہذیب و ثقافت

1. مجلس تہذیب و ثقافت کے اجلاس

- 1.1 اجلاس کی سربراہی:
- 1.2 اہم ترین:
- 1.3 اجلاس کے نتائج پر
ملاحظہ کیا:

2. مجلس تہذیب و ثقافت کے اجلاس

- 3.1 مجلس تہذیب و ثقافت (پندرہویں اجلاس):
- 3.2 پی. اے. سی. (پندرہویں اجلاس):
- 3.3 پی. اے. سی. (پندرہویں اجلاس):
- 3.4 پی. اے. سی. (پندرہویں اجلاس):
- 3.5 کونسل کے سربراہی کے اجلاس
کے اجلاس (ممبران کی سربراہی)
(پندرہویں اجلاس)

3. مجلس تہذیب و ثقافت کے اجلاس

- 3.1 مجلس تہذیب و ثقافت (IUL) 101-AS/1/2022/133 کے اجلاس کے نتائج پر
ملاحظہ کیا، کونسل کے سربراہی کے اجلاس کے نتائج پر
ملاحظہ کیا۔
- 3.2 اجلاس کے نتائج پر / اجلاس کے نتائج پر
ملاحظہ کیا، کونسل کے سربراہی کے اجلاس کے نتائج پر
ملاحظہ کیا۔

4. مجلس تہذیب و ثقافت کے اجلاس

سربراہ	
سربراہ	
رکن	

General Scope

- 1.1.1.1 Supply of all material including necessary requirement and other tools are under the complete responsibility of the contractor.
- 1.1.1.2 All installation works must be carried out by the awarded contractor. All necessary tools and other equipment including adhesives and other components will not be provided by the client and must be managed by the awarded contract.
- 1.1.1.3 Regular site inspection will be done by the client during construction work. During site analysis and measuring, the awarded contractor will always be accompanied by a staff of the client on site.
- 1.1.1.4 All works must be carried out with care to the existing structure. All partition to be fabricated by the contractor at their own premises to minimize the disturbance to other offices in the building. Work must be minimized to fixing only where applicable. All finishes must be done with extra care to provide a seamless finish.
- 1.1.1.5 AC's located within site should not be turned on to prevent any damage, due to excess dust and particles. Where required, these should be covered.
- 1.1.1.6 Relocation of existing furniture to the areas specified by the staffs.
- 1.1.1.7 All waste must be discarded by the contractor. Common areas, staircase and lobby should be cleaned after shifting of materials during the period when the work is conducted on site. Finally, site should be cleaned prior to hand over.

Network Cabling & CCTV Camera installation

- 1.2 Cables must be labeled clearly with their source and destination at each termination point (to ensure that both the ends of the cable are labeled for identification and traceability)
- 1.3 Install CAT6 category network cable
- 1.4 There must be enough length of cable (recommended 5 feet) at the termination end to the wall mount rack.
- 1.5 Termination type: T568B standard
- 1.6 Cat6 Patch Panel must be installed in the Wall Mount Rack
- 1.7 Network face panel must be terminated (T568B standard) at workstations
- 1.8 Every cable must be tested during installation and termination. If there are any connectivity issues whatsoever, the cable must be identified and replaced. Final test results must be provided to MED
- 1.9 Do not leave unused cables in casings or above the ceiling
- 1.10 Bundle cables that route over the ceiling to the same location together
- 1.11 Cables running above the ceiling must be run through a conduit

- 1.12 Cable running to workstations and other areas must be run through partitions (With minimal use of cable casing)
- 1.13 Ensure termination points to the Patch Panel are arranged and bundled together neatly to ensure clean cabling to switch
- 1.14 1M Patch code (Preferable: Black) must be provided to each Network face panel (Which needs to connect to Workstations/equipment) and each point in the patchpanel (which needs to connect to Network Switches)
- 1.15 Do not pass network cables and electric cables in the same conduit or casing
- 1.16 18U rack or bigger (if required) must be supplied and installed
- 1.17 Additional 4 Network points must be added for 2 x attendance machines and 2 x AP
- 1.18 CCTV setup and configuration